



سوال

رسولوں کے مابین افضلیت

جواب

الحمد للہ

فرمان باری تعالیٰ ہے :

"یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے"

یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے :

"اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی"

تو بلاشک و شبہ انبیاء اور رسل بعض بعض سے افضل ہیں اور رسولوں میں سے اولوالعزم رسول افضل ہیں اور اولوالعزم رسل پانچ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دو آیات میں ذکر کیا ہے۔

ایک تو سورۃ احزاب کی یہ آیت ہے :

"اور جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور خاص کر آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے"

وہ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام جمیعاً۔

اور دوسری آیت سورۃ الشوریٰ میں ہے :

"اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے اور جس کا ہم نے تاکید کی حکم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو دیا۔"

تو پانچوں باقی سب سے افضل ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے متعلق یہ فرمان :

"یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتاہوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں میں سے ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے۔"

تو اس کا معنی یہ ہے کہ :



ہم ان پر ایمان لانے میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تو وہ سچ بولنے اور تصدیق کرنے والے ہیں۔

تو یہ اس آیت کا معنی :

"اس کے رسولوں میں سے ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے"

یعنی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے رسول ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔

لیکن ایسا ایمان جو کہ اتباع اور پیروی کا منضمین ہو وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ضروری ہے اور انکی شریعت نے باقی سب شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔

تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا ایمان تو سب پر ہو گا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے اور حق رسول ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب ادیان سابقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ منسوخ ہو چکے ہیں تو سب مسلمانوں پر یہ واجب ہو چکا ہے کہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور اتباع کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ باقی سب ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔

تو اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا :

"آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور انکی اتباع کرو تا کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔"

تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ باقی سب ادیان منسوخ ہو چکے لیکن ان رسولوں پر ایمان رکھنا کہ وہ حق اور سچے رسول ہیں یہ ضروری ہے۔

واللہ اعلم .

اسلام سوال و جواب

فتویٰ نمبر: 12096